

فلیش اور جائزہ (حصہ 1)

لب لباب:

فائرمین کو آگ سے لڑنے اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کو نکالنے سے جوش آتا ہے۔ وہ لگاتار خود کو پُر خطر صورتحال میں ڈالتے ہیں۔ ان میں سے کسی آدمی کو خون نکل سکتا ہے لیکن وہ آنسو نہیں بہاتا۔ کام کے دباؤ کو یا نظرانداز کر دیتا ہے یا اپنے اندر بی دبالیتا اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔

سینئر اسٹیشن افسر واہ نے نوٹس کیا ہے کہ ایک ہفتہ قبل ہنگ فیٹ انڈسٹریل بلڈنگ میں ہیں۔ مینگ لگی، آگ میں جو کچھ ہوا اس کے سبب فائرمین مینگ ابھی بھی پریشانی میں سوچتے ہیں کہ کیسے وہ، ان کا ساتھی ٹونی، ما، اور کونن، ایس ایس ٹی این او واہ کی قیادت میں، فلیش اور میں پھنس گئے تھے، آگ بجهاتے وقت فائرمین کے لئے یہ سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آگ کی گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ آتش گیر ماد وں بشمول آتش پذیر گیسوں میں اچانک آگ لگ جاتی ہے اور فائرمین واقعی آگ کی لپٹوں میں گھر جاتے ہیں۔

مل آگ کے منظر کے بعد چار ملازمین کے لاتھ ہونے کی اطلاع ملی۔ ان میں سے تین گئے اور چوتھے کی تلاش جاری ہے۔ جب فلیش اور اچانک ہوتا ہے، ایس ایس ٹی این او واہ سب کو نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ٹونی اور ما لاتھ ہو جاتے ہیں اور مینگ اور کونن کو انہیں تلاش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو بچالیا جاتا ہے، لیکن دونوں شدید طور پر زخمی ہو جاتے ہیں۔

سینئر ڈیزائنل افسر اے یو یینگ جائے حادثہ پر کمانڈ لینے کے لئے آتے ہیں۔ چونکہ آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور خطرناک مادے جگہ پر ملے ہیں، جن سے اچانک دھماکوں کا خطرہ ہے، اس لئے، ایس ڈی او اے ے و ینگ پوری عمارت کو خالی کرانے کا حکم دیتے ہیں۔ تاہم صورتحال اس وقت نازک ہو جاتی ہے جب ملاز میں آگ میں جانے کے خوف سے عمارت کو چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔

آگ لگنے کے ایک ہفتہ بعد فائر سروس کی اسٹریس کاؤنسلنگ ٹیم، فائر فائٹنگ میں حصہ لینے والوں کو کاؤنسلنگ مہیا کرانے کے لئے، اسٹیشن کا دورہ کرتی ہے۔ آگ لگنے کی وجہات کا پتہ لگانے اور فائر فائٹنگ آپریشن کے دوران اچانک کیا ہوا جس کی وجہ سے فائر میں ٹونی کوما میں چلے گئے، اس کا پتا لگانے کے لئے ٹسٹ بھی کیا جاتا ہے۔

جب آگ لگتی ہے تو لڑنا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے تاہم اس کے بعد کی تفتیش اور بھی ضروری ہے تاکہ مستقبل میں آگ لگنے کے واقعہ سے بچایا جاسکے۔ کیا اور کیوں ہوا، یہ سمجھنا بہت اہم ہے لیکن اس کے بعد کے جس نے آگ سے لڑائی لڑی ہے، اس کے جذبات سے نیٹا بھی بہت اہم ہے۔

نشریات کی جانکاری:

06-08-2018، پیر، 1830-1900

(ری پیٹ)

10-08-2018، جمعہ، 1330-1355

11-08-2018، سنیچر، 0630-0700